

Q. No.2 Write short answers of any Five parts 2x5=10

سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

Define business transaction.	i	کاروباری لین دین کی تعریف کیجئے۔
Explain in brief the cost concept.	ii	لاگت خریدہ - کی مختصراً وضاحت کیجئے۔
Reproduce the list of elements present in an accounting equation.	iii	ایک حسابی مساوات میں موجود عناصر کی فہرست بنائیے۔
If Assets = Rs. 120,000 and Liabilities = Rs. 30,000 Identify the amount of capital.	iv	اگر اثاثہ جات کی مالیت 120,000 روپے اور واجبات کی مالیت 30,000 روپے ہو تو سرمایہ کی رقم کی نشاندہی کیجئے۔
Differentiate between current account and saving account.	v	چلت کھاتہ اور بچت کھاتہ میں فرق واضح کیجئے۔
Discuss honour of cheque.	vi	چیک کی ادائیگی کو بیان کیجئے۔
Which book is called three column cash book ?	vii	کس بک کو تین ستونوں کا کاش بک کہتے ہیں ؟
Why is it necessary to compare cash book and pass book ?	viii	کاش بک اور پاس بک کا موازنہ کیوں ضروری ہے ؟

Q. No.3 Write short answers of any Five parts 2x5=10

سوال نمبر 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

Differentiate between drawer and drawee.	i	درجہ دار اور درجہ دار کے درمیان فرق بیان کیجئے۔
Elaborate in-land bill of exchange.	ii	مقامی ہنڈی کی وضاحت کیجئے۔
Why profit and loss account is prepare ?	iii	نفع و نقصان کا کما- کھن بنانے ہیں ؟
Give two examples of current liabilities.	iv	رواں واجبات کی دو مثالیں دیجئے۔
Describe capital expenditure.	v	سرمایہ اخراجات کی وضاحت کیجئے۔
Narrate the meaning of capital profit.	vi	سرمایہ منافع کے معانی بیان کیجئے۔
Define the term error of commission.	vii	ارکھائی غلطیوں کی تعریف کیجئے۔
Explain the purpose of suspense account in rectification.	viii	غلطیوں کی اصلاح میں سسپنس اکاؤنٹ کا مقصد بیان کیجئے۔

(Part-II حصہ دوم)

NOTE : Attempt any Three questions from this part 3x20=60

نوٹ: اس حصہ سے کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Journalize the following transactions of Usman Traders.

سوال نمبر 4- عثمان ٹریڈرز کے لین دین کو جرنل جرنل میں ریکارڈ کیجئے۔

Usman started business with Cash Rs 80,000, furniture Rs 20,000 and goods Rs 15,000	i	عثمان نے منافع 80,000 روپے کیش 20,000 روپے کا فرنیچر اور منافع 15,000 روپے کی اشیاء سے کاروبار شروع کیا۔
Purchased goods for Rs 25,000 from Irfan.	ii	عرفان سے منافع 25,000 روپے کی اشیاء خرید کیں۔
Goods amounting to Rs 2500 returned to Irfan.	iii	عرفان کو منافع 2500 روپے کی اشیاء واپس کیں۔
Sold goods to Ali for Rs 15,000	iv	علی کو منافع 15,000 روپے کی اشیاء اموحار فروخت کیں۔
Paid cash to Irfan Rs 10,000 as part payment.	v	عرفان کو کھل ادائیگی میں سے منافع 10,000 روپے ادا کیئے۔
Goods of Rs 2000 returned from Ali.	vi	منافع 2,000 روپے کی اشیاء علی نے واپس کر دیں۔
Received cash Rs 8000 from Ali as part payment.	vii	علی سے کس رقم 8,000 روپے ابھی وصول ہوئے۔
Goods of Rs 1000 distributed as charity.	viii	منافع 1,000 روپے کی اشیاء خیرات کے طور پر تقسیم کر دیں۔
Withdrew cash Rs 5000 for personal use.	ix	ذاتی استعمال کے لیے منافع 5,000 روپے کاروبار سے نکالوائے۔
Paid Rs 5000 salary and Rs 7000 for rent.	x	منافع 5,000 روپے خواہ اور منافع 7,000 روپے کرایہ ادا کیا۔

سوال نمبر 5- وجوہات سے بیان کیجئے کہ درج ذیل سرمایہ ہیں یا مالامالی ہیں۔

State with reasons whether the following items are capital or revenue

Legal expenses paid for registration of newly purchased land for business.	i	کاروبار کیلئے خرید کردہ زمین کی رجسٹری کیلئے قانونی اخراجات کی ادائیگی۔
Commission paid to real estate dealer on purchase of land for business	ii	کاروبار کیلئے زمین کی خریداری پر پراپرٹی ڈیلر کو کمیشن کی ادائیگی۔
White wash expenses for office building.	iii	دفتر کی عمارت پر رنگ سازی کے اخراجات کی ادائیگی۔
Wages of workers for construction of factory building.	iv	فیکٹری کی عمارت کی تعمیر کیلئے مزدوروں کو اجرتوں کی ادائیگی۔
Painting expenses for newly constructed factory building.	v	فیکٹری کی نئی تعمیر شدہ عمارت پر پینٹنگ خرچ کی ادائیگی۔
Payment of salaries to office staff.	vi	دفتر کے اسٹاف کی تنخواہیں ادا کیں۔
Advertising expenses for sales promotion.	vii	فروخت میں اضافہ کیلئے تشریح خرچ کی ادائیگی۔
Repair expense for equipment damage during unpacking.	viii	انیکو پمپ کو - سے ٹکارتے وقت نقصان ہونے کی صورت میں مرمت خرچ۔
Obtained a loan from bank to finance new project.	ix	نئے منصوبہ کیلئے بینک سے قرض کا حصول۔
Traffic permit fee paid for moving heavy machinery on city street.	x	ٹرینک پولیس سے شگل اجازت کے بغیر شہر کی گلی میں بھاری مشینری لانے کی صورت میں ٹریفک جرمانہ کی ادائیگی۔

DGR-11-24

سوال نمبر 6۔ سز ماب کی دین ڈیل مطوعات سے 30 ستمبر 2023 کا گزشتہ قلمی ایک چار ہے

From the following particulars, prepare bank reconciliation statement of Mr. Abid as on 30 th September, 2023.	
Balance as per pass book Rs. 23000.	i
Cheques for Rs. 1000 and Rs. 3400 passed for payment before 30 th September, 2023 has not so far been presented for payment	ii
Uncredited cheques upto September 30, 2023 Rs. 2700	iii
Service charges deducted by the bank Rs. 100	iv
Directly deposited by a customer Rs. 500	v
A cheque for Rs. 1400 had been dishonored.	vi

سوال نمبر 7۔ دی گئی غلطیوں کو درست کیجیے۔

Purchase book over-cast Rs. 5000/-	i
Salaries paid charged to wages account Rs. 10000/-	ii
Interest paid was wrongly posted as interest received Rs. 3000/-	iii
Payment of salaries Rs. 1890/- was wrongly posted to salary account Rs. 1890/-	iv
Purchase of old Machinery wrongly posted to sales account Rs. 5000/-	v
Sales book under-cast Rs. 1000/-	vi
Sales return Rs. 2000/- by Shahid has been omitted to record.	vii
Credit sales to Ali Rs. 3000/- wrongly debited to his account Rs. 6000/-	viii
Rent paid Rs. 2000/- was omitted to be recorded.	ix
Sales return book under cast Rs. 2000/-	x

سوال نمبر 8۔

Naveed sold goods to Waqas for Rs. 60,000. Naveed drew a bill of exchange on Waqas for this amount for four months, on maturity the bill was dishonored.	
Pass Journal entries in Naveed's Journal under the following circumstances.	
1. If Naveed retained the bill with himself till due date.	
2. If Naveed discounted the bill with his banker @ 12 % per annum.	
3. If Naveed sent the bill to his bank for collection.	
4. If Naveed endorsed the bill to his creditor Asad.	

سوال نمبر 9۔ ٹرانس بیلنس کی مد سے تہدلی و تعلق و نقصان کا کھاتہ اور بیلنس شیٹ چار کیجیے

Prepared trading profit & loss account and Balance Sheet.

	Rs		Rs
Machinery	12000	Discount	627
Debtors	10690	Sales	11439
Bank	3151	Creditors	12408
Opening stock	2920	Capital	18390
Purchases	9092		
Drawing	250		
Carriage	600		
Wages	1910		
Salaries	1300		
Insurance	119		
Postal Expenses	132		
Bad debts	700		
	42864		42864

Adjustment	
(i) Closing stocks Rs. 7928	(i) اختتامی ذخیرہ 7928 روپے
(ii) Depreciation on Machinery 5 %	(ii) مشینری پر 5% پرٹ ملانہ 5%
(iii) Outstanding wages Rs. 300	(iii) قابل ادا تنخواہیں 300 روپے
(iv) Prepaid Insurance Rs. 50	(iv) اگلی اوقات انشورنس 50 روپے